



سٹی آف برامپٹن 16 جولائی کو دوبارہ کھلنے کے صوبائی روڈ میپ کے مرحلہ تین میں بحفاظت بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے

برامپٹن، آن (9 جولائی 2021) – حکومت اونٹاریو کے آج کے اعلان کے بعد، سٹی آف برامپٹن بروز جمعہ، 16 جولائی کو بوقت رات 12:01 دوبارہ کھلنے کے صوبائی روڈ میپ کے مرحلہ تین میں بحفاظت بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ مرحلہ ہماری کمیونٹی اور اونٹاریو کے نگہداشت صحت کے شراکت داروں کی وقف کوششوں کی بدولت آ رہا ہے۔ 8 جولائی 2021 تک، اونٹاریو میں 12 سال اور زائد عمر کی 77 فیصد آبادی کووڈ-19 ویکسین کی ایک خوراک موصول کر چکی ہے اور 50 فیصد سے زائد نے اپنی دوسری خوراک بھی حاصل کر لی ہے۔ پورے صوبے میں، کووڈ-19 ویکسین کی 16.6 ملین سے زائد خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔

16 جولائی سے، دوبارہ کھلنے کے صوبائی روڈ میپ کے مرحلہ تین تحت درج ذیل قواعد اور اقدامات زیر نفاذ ہوں گے:

- محدود استثناء کے ساتھ 100 افراد تک کے بیرونی سماجی اجتماعات اور منظم عوامی تقریبات؛
- 25 افراد تک کے اندرونی سماجی اجتماعات اور منظم عوامی تقریبات؛
- اندرونی مذہبی عبادات، رسومات یا تقریبات، بشمول شادی کی تقریبات اور تہجیز و تکفین جسمانی فاصلہ بندی کے ساتھ اجازت شدہ ہیں؛
- فی میز گاہکوں کی تعداد پر کسی قسم کی حدود کے بغیر اندرونی جگہوں پر کھانے کی اجازت ہے، جبکہ سماجی فاصلہ بندی اور دیگر پابندیوں کا اطلاق برقرار رہے گا؛
- کھیلوں اور تفریحی تندرستی کی اندرونی سہولت گاہیں کھلیں گی، تاہم اندرونی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ 50 فیصد گنجائش کی اجازت ہو گی۔ اندرونی تماش بینوں کی گنجائش سیٹوں کی عمومی گنجائش کے 50 فیصد یا 1,000 افراد تک محدود ہو گی، جو بھی کم ہو۔ بیرونی تماش بینوں کی گنجائش سیٹوں کی عمومی گنجائش کے 75 فیصد یا 15,000 افراد تک محدود ہو گی، جو بھی کم ہو۔
- ملاقاتوں اور تقریبات کی اندرونی گہوں کو ابھی بھی جسمانی فاصلہ بندی اور دیگر پابندیوں کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے اور ان کی گنجائش 50 فیصد سے کم یا 1,000 افراد (جو بھی کم ہو) تک محدود ہے۔
- ضروری اور غیر ضروری پرچوں کی گنجائش اتنے افراد تک محدود ہے، جو دو میٹر کا جسمانی فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہوں؛
- ذاتی نگہداشت کی خدمات، بشمول ایسی خدمات جن کے لیے ماسک اتارنے کی ضرورت ہو، کی گنجائش اتنے افراد تک محدود ہے، جو دو میٹر کا جسمانی فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہوں؛
- عجائب گھر، گیلریز، تاریخی مقامات، ایکونیریمز، چڑیا گھر، اہم مقامات، نباتاتی باغات، سائنس سنٹرز، جوئے خانے/ہنگو ہالز، امیوزمنٹ پارکس، میلے اور دیہی نمائشیں، جشن، جنہیں 50 فیصد اندرونی گنجائش اور 75 فیصد بیرونی گنجائش کی اجازت ہے۔
- کانسرٹ کے مقامات، سنیماؤں اور تھیٹرز کو ذیل کے مطابق چلنے کی اجازت ہے:

- اندرونی گنجائش کے 50 فیصد یا بیٹھنے والی تقریبات کے لیے زیادہ سے زیادہ 1,000 افراد کی حد (جو بھی کم ہو)
- بیرونی گنجائش کے 50 فیصد یا بیٹھنے کے بغیر تقریبات کے لیے زیادہ سے زیادہ 1,000 افراد کی حد (جو بھی کم ہو)؛ اور مختص سیٹوں والی تقریبات کے لیے گنجائش کا 75 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 15,000 افراد کی حد (جو بھی کم ہو)۔

- رینل اسٹیٹ اوپن ہاؤسز کی گنجائش اتنے افراد تک محدود ہے، جو دو میٹر کا جسمانی فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہوں؛ اور
- اندر بیٹھ کر کھانے پینے کے مقامات، جہاں ناچنے کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، بشمول نائیٹ کلبز اور ریستو بارز، کو گنجائش کے 25 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 250 افراد (جو بھی کم ہو) کی اجازت ہے۔

پورے مرحلہ تین کے دوران اندرونی عوامی جگہوں پر چہرے کو ڈھانپنے اور جسمانی فاصلہ بندی کے تقاضے زیر نفاذ رہیں گے۔ یہ پبلک ہیلتھ ایجنسی آف کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ عوامی صحت کے ذاتی اقدامات میں موجود مشوروں سے مطابقت رکھتا ہے، جبکہ اونٹاریو کے لیے مخصوص معلومات اور تقاضوں کو بھی مدنظر رکھتا ہے۔ کچھ بیرونی مقامات پر بھی چہرے کو ڈھانپنے کی ضرورت ہو گی۔



صوبہ روڈ میپ کے مرحلہ تین میں کم از کم 21 دن تک اور اس وقت تک رہے گا، جب تک کہ 12 سال اور زیادہ عمر کی اہل آبادی کے 80 فیصد افراد کو کووڈ-19 ویکسین کی پہلی خوراک اور 75 فیصد کو ان کی دوسری خوراک موصول ہو چکی ہو اور یہ کہ عوامی صحت کی کسی بھی یونٹ کی ویکسین یافتہ آبادی ان کی کل آبادی کے 70 فیصد سے کم نہ ہو۔ عوامی صحت اور نگہداشت صحت کے دیگر مظاہروں کو بھی مستحکم رہنا چاہیے۔ ان شرائط کو پورا کرنے پر، عوامی صحت اور جائے کار پر سلامتی کے زیادہ تر اقدامات، بشمول اندرونی اور بیرونی مقامات پر گنجائش کی حدود اور سماجی اجتماعات کے لیے حدود، کو ہٹا لیا جائے گا۔ صرف چند ایک اقدامات زیر نفاذ رہیں گے، بشمول غیر متحرک جانچ، مثلاً علامت آویزاں کرنا اور کاروباروں کے لیے حفاظتی منصوبہ ضروری ہونا۔

صوبہ کی نیوز ریلیز یہاں پڑھیں۔

سٹی کی خدمات اور سہولت گاہیں

تفریحی سنٹرز کا دوبارہ کھلنا

تفریحی سنٹرز کے دوبارہ کھلنے کے متعلق معلومات اور سٹی کے تفریحی مراکز کو تشریف لانے کے متعلق خبروں کے لیے، براہ کرم 12 جولائی کے ہفتے کے دوران یہاں پر آئیں۔ تمام تفریحی سنٹرز میں تشریف لانے کے لیے وقت مختص کرنے کا ایک نظام لاگو ہو گا، بشمول کسی بھی وقت شرکت کے تندرستی، ایکوئیٹکس، سکیٹنگ اور عمومی پروگراموں میں شرکت کے لیے۔

سٹی کی بیرونی تفریحی سہولیات

مرحلہ تین کے دوران بیرونی تفریحی سہولیات دستیاب ہیں، بشمول گالف کورسز اور ڈرائیونگ رینجز، ساکر اور کھیلوں کے دیگر شعبے، بیس بال ڈائمنڈز اور بیٹنگ کیجز، ٹینس اور باسکٹ بال کورٹس، لان باؤلنگ اور باجی، BMX اور سکیٹ پارکس اور ویڈنگ پولز اور سپلش پیڈز۔ پروفیسرز لیک بیج اور ایڈورٹو پارک کے بیرونی پول کو، اگر موسم اور پانی کے حالات اجازت دیں تو، اس موسم کے لیے کھول دیا گیا ہے۔

سٹی کی مخصوص بیرونی سہولیات کے حوالے سے کووڈ-19 سے متعلقہ صحت و سلامتی کے اقدامات کے متعلق تفصیلات کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca/summerfun ملاحظہ کریں۔

ورچوئل پیشکشیں

ورچوئل کیمپس 4 سے 6 اور 6 سے 10 سال کی عمر کے شرکاء کو نئی دوستیاں بنانے، سماجی مہارتیں بڑھانے اور اپنی رفتار سے پرجوش پراجیکٹس پر کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، جبکہ وہ اس دوران اپنے ساتھیوں اور خاندانوں سے میل جول کر رہے ہوتے ہیں۔ 6 سے 13 سال اور 14 سے 20 سال کی عمر کے شرکاء کے لیے بھی انکلوژن ورچوئل کیمپس دستیاب ہوں گے۔ تمام پروگراموں کی رہنمائی سٹی آف برامپٹن کے تربیت یافتہ انسٹرکٹرز ویب ایک پلیٹ فارم کے ذریعے کرتے ہیں۔ رجسٹریشن www.brampton.ca/recathome پر دستیاب ہے۔

برامپٹن کے رہائشی ورچوئل فٹنیس کلاسز کے ذریعے اپنے گھر کے سکون سے فعال رہ سکتے ہیں، جو مختلف شدت کی حامل ہیں اور ہر قسم کی ترجیحات رکھنے والے افراد کے لیے مختلف اقسام کی ورزشوں کی حامل ہیں۔ تندرستی کے لیے تربیت یافتہ انسٹرکٹرز کے ساتھ 30 منٹ کی مفت براہ راست ورزش کے لیے رجسٹر ہوں۔ رجسٹریشن 7 دن پہلے www.brampton.ca/recathome پر کروائی جا سکتی ہے۔

55+ سال کی عمر کے بالغ افراد کو مفت، پرتعمیل آن لائن ورکشاپس کے لیے رجسٹر ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ شرکاء کو ایک محفوظ اور منظم ماحول میں ساتھیوں سے ملنے اور سماجی میل جول بڑھانے، نئی دوستیاں بنانے اور آن لائن روابط قائم کرنے کا موقع ملے گا۔ سرگرمیاں سٹی آف برامپٹن کے تربیت یافتہ انسٹرکٹرز کی جانب سے ویب ایکس پلیٹ فارم کے ذریعے منعقد کی جائیں گی۔ رجسٹریشن www.brampton.ca/recathome پر کروائی جا سکتی ہے۔



ویکسینیشنز

کوئی بھی شخص کو پیل میں رہنا، کام کرنا یا پڑھنا ہو اور اس کی عمر 12 سال سے زیادہ ہو، اپنی پہلی خوراک کی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتا ہے۔

ایک ایم آر این اے ویکسین (فائزر یا ماڈرنا) حاصل کرنے والا ہر شخص اپنی دوسری خوراک بک کروانے کے لیے اہل ہے۔ پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان وقت کو کم از کم 28 دن ہونا چاہیے۔

ایسٹرا زینکا کی اپنی پہلی خوراک کم از کم آٹھ ہفتے پہلے حاصل کرنے والا کوئی بھی شخص اپنی دوسری خوراک بک کر سکتا ہے۔ اس بات کی سفارش کی جاتی ہے کہ لوگ اپنی دوسری خوراک کے لیے ایم آر این اے ویکسین (ماڈرنا یا فائزر) حاصل کریں۔

کووڈ-19 ویکسینیشنز کے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے، صوبے کا [ویکسین بورڈ](#) ملاحظہ کریں۔

لنکس

- [سٹی آف برامپٹن کے کووڈ-19 کے دوران پروگراموں اور خدمات اپ ڈیٹ](#)
- [سٹی آف برامپٹن – کیا کھلا ہے، کیا بند ہے](#)
- [کووڈ-19 کی علامات](#)
- [کووڈ-19 کی ویکسین](#)
- [برامپٹن میں ٹیسٹنگ](#)
- [خود کو تنہا کیسے کیا جائے](#)
- [کاروباروں اور جائے بائے کار کو کووڈ-19 کے دوران محفوظ رکھنا](#)
- [پیل میں کووڈ-19 کے کیسز](#)

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca